

❖ قَالَ الْمُرَادُ لَكَ لَاتِكَ

لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ④

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ

بَعْدَهَا فَلَا تُصِحِّبْنِي ⑤

قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ⑥

فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْنَا

أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا

أَهْلَهَا فَأَبَوْا

أَنْ يُصِيبَهُمْ فَوْجًا فِيهَا جِدَارًا

يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ⑦

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ

عَلَيْهِ أَجْرًا ⑧

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ⑨

سَأَنْبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا

لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ⑩

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ

يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ

أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ

يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ⑪

انہوں نے کہا کیا نہیں کہا تھا میں نے آپ سے کہ یقیناً آپ

نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ رہ کر صبر؛ ④

موسیٰ نے کہا اگر پوچھوں میں آپ سے کوئی بات

اس کے بعد تو نہ رکھیے گا مجھے اپنے ساتھ۔

یقیناً مل گیا ہے آپ کو میری طرف سے عذر ⑤

پھر چل پڑے وہ دونوں حتیٰ کہ جب پہنچے وہ دونوں

ایک بستی والوں کے پاس تو انہوں نے کھانا طلب کیا

وہاں کے رہنے والوں سے تو انکار کر دیا انہوں نے

انہیں مہمان بنانے سے پھر دیکھی انہوں نے وہاں ایک دیوار

جو گرا چاہتی تھی تو اس نے اُسے درست کر دیا۔

موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ضرور لے سکتے تھے

اس کام پر اجرت ⑧

انہوں نے کہا اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان۔

میں بتائے دیتا ہوں آپ کو حقیقت ان باتوں کی کہ

ذکر کے آپ ان پر صبر ⑩

چنانچہ وہ کشتی سوچی وہ چند مسکینوں کی جو

مزدوری کیا کرتے تھے سمندر میں، میں نے چاہا کہ

اسے عیب دار کر دوں کیونکہ ہے ان کے آگے ایک بادشاہ

جو پھین لیتا ہے ہر کشتی زبردستی ⑪